

هَذَا يَوْمَ نُنزِلُ إِلَيْكَ فِي الْوَيْدِ بِالْبُرْقَانِ
هَذَا يَوْمَ نُنزِلُ إِلَيْكَ فِي الْوَيْدِ بِالْبُرْقَانِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ عِلْمُهُ بِمَا فِي الصُّدُورِ خَيْرٌ
سُبْحَانَكَ يَا مَنْ عِلْمُهُ بِمَا فِي الصُّدُورِ خَيْرٌ

وہاں اگلے ۱۲ سال آ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی مسجد نہ تھی۔ اس لیے اس وقت اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر میں ۱۲ سال لگے۔ اس کی تعمیر میں ۱۲ سال لگے۔ اس کی تعمیر میں ۱۲ سال لگے۔



سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 رحمن در سیم خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں)

الحمد لله رب العالمین
 کل عالموں کے پروردگار کو تعریف کرنے کے لیے ہر قسم کی تعریف خاص ہے (جو)

الرحیم ۰ ملک يوم الدين ۰ ایتاک
 رحمن در سیم پر (اوپر) پھیلنے کے دن کا مالک ہم تیری ہی

تعبدا ۰ ایتاک نستعین ۰ اهدنا
 عبادت کرنے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں خاص

الضراط المستقیم ۰ صراط الذین
 راہ حق پر ہر حکوایت قدم رکھو ان لوگوں کی راہ پر

انعمت علیہم غیر المغضوب
 جس پر تو نے انعام فرمایا نہ انکی جس پر غضب

علیہم ولا الضالین ۰
 نازل کیا گیا اور نہ گمراہوں کی

یہ ساری باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ لوگ ان کی تفسیر سے غلط فہمی نہ پکڑیں۔ اس کی تفسیر میں ۱۲ سال لگے۔ اس کی تفسیر میں ۱۲ سال لگے۔ اس کی تفسیر میں ۱۲ سال لگے۔

اس کی تفسیر میں ۱۲ سال لگے۔ اس کی تفسیر میں ۱۲ سال لگے۔ اس کی تفسیر میں ۱۲ سال لگے۔ اس کی تفسیر میں ۱۲ سال لگے۔

ادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ

(علیہ السلام) کو کل نام تعلیم کئے پھر (جسکے نام تعلیم کئے تھے) انکو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد

أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا

فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو انکے نام مجھے بتادو فرشتوں نے

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ

(عاجزانه) عرض کی تیری شان عالی ہے ہر کوسوائے اُتے علم کے جتنا تو نے تعلیم کیا ہے اور علم کمان بیشک

الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَا دَمَرُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۝ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ

صاحب علم و حکمت تو ہی ہے (ضرانے) فرمایا اے آدم انکے نام ان فرشتوں کو تم بتادو چنانچہ جب آدم نے

بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ

انکے نام ان فرشتوں کو بتائے تو (ضرانے) فرمایا کہ کیوں میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان

وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْفُمُونَ ۝ وَإِذْ

اور زمین کی پوشیدہ باتوں سے بھی آگاہ ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اس اور جو کچھ چھپا رہے ہو اس میں سچ

قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۝ ط

واقع ہوں اور جس وقت ہم نے کل فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوا ایک ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا

أَبِي وَاسْتَكْبَرَ ۚ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْنَا يَا آدَمُ

(ابلیس) اگر اگر انکاری ہوا اور کافروں میں شمار ہوا اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم

اَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ

تم اور تمہاری زوجہ اس باغ میں بسو اور جہان جہان سے تم دونوں کا جی چاہے خوب کھاؤ پیو

شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تمہارا شمار نافرمانوں میں ہو جائے گا

فَازْلِمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۝

شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکالنے کی تدبیر کی اور جہات میں دونوں کے امین انکو نہ رہنے دیا

کلمہ از اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا دم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض واعلم ما تبذون وما کنتم تکفون واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ط ابی واستکبر وکان من الکفرین قلنا یا ادم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکون من الظالمین فازلما الشیطن عنہا فخرجہما مما کانا فیہ

کلمہ از اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا دم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض واعلم ما تبذون وما کنتم تکفون واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ط ابی واستکبر وکان من الکفرین قلنا یا ادم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکون من الظالمین فازلما الشیطن عنہا فخرجہما مما کانا فیہ

کلمہ از اسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا دم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض واعلم ما تبذون وما کنتم تکفون واذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ط ابی واستکبر وکان من الکفرین قلنا یا ادم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکون من الظالمین فازلما الشیطن عنہا فخرجہما مما کانا فیہ

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqra) on the left and '۱۲' in a circle in the center.

البقرة

۱۲

البقرة

عَظِيمٌ ۝ وَاذْ قُرْنَا لَكُمْ الْحُكْمَ فَانجَيْنَاكُمْ وَاغْرَقْنَا آلَ

اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تمہارے لئے راستہ پیدا کر دیا تھا اور ہمیں نجات دی

فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَاذْ وُعِدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِينَ

دی تھی اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون والوں کو ڈبو دیا تھا اور (اسے بھی یاد کرو) جب کہ تمہارے لئے چالیس

لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝

شبوں کا وعدہ کیا تھا پھر تم نے یہ ظلم کیا کہ اگلی غیبت میں بچھا پوجنے لگے

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اس پر بھی تمہارا قصور معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو

وَاذْ اَتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

اور (اس وقت کو یاد کرو) جب کہ تمہارے لئے کتاب (یعنی قرآن و تورات) اور فرقان کی کتابیں اتاریں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ

وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ

اور جب تمہارے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اے میری قوم تم نے بچھا پوج کر خود اپنے اوپر ظلم توڑا ہے اب

بِاَتْخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا اِلَىٰ بَارِكُمْ فَاَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ۝

اپنے پیدا کر نیوالے کے حضور میں توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ فَاَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ۝

یہ تمہارے پیدا کر نیوالے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے پھر تمہاری توبہ قبول کی جائے گی

التَّوَابُ الرَّحِيمِ ۝ وَاذْ قُلْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْكٰفِرِيْنَ اَلَا نُرِي

توبہ قبول کرنے والا اور ارحم کر نیوالا ہے۔ اور جب تم نے یہ کہا تھا کہ اے کافر لوگو! ہم ظاہر و باطن

نَرَىٰ اِلٰهًا جِهْرًا وَاَخْتَفًا لَكُمْ الصُّعْقَةَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝

خدا کو نہ دیکھتے ہیں ہم تو تمہاری باتوں پر ایمان نہ لائے تھے تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تیر بجلی گری تھی

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَمْنَا

پھر تمہارے مرنے کے بعد تمکو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو اور تمہارے لئے

Vertical handwritten notes on the right side of the page, including the word 'سورة' (Surah) and other commentary.

Handwritten notes at the bottom of the page, including the word 'سورة' (Surah) and other commentary.

Handwritten notes at the very bottom of the page, including the word 'سورة' (Surah) and other commentary.

عَلَيْكُمْ الْعَمَلُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ وَالْحِكْمَ وَكُلُوا

بادلوں کا سایہ کیا۔ اور تم پر بھی رسولی نازل کیا۔ (اور ہم نے حکم دیا کہ)

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

پاک اور بے رزق کا شوق نہ تھا۔ اور جو اچھے کھانے تو انہوں نے کھا رکھے اور انہوں نے اپنی جانوں

يُظْلِمُونَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا

ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تمہارا حق ہے

حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا أَوْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا

جہاں چاہو (جو) اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور لفظ حکم

سُحَّةً تَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاسْزِدْ الْحُسَيْنِينَ ۝ قَاتِلِ

بھی اپنی زبان پر جاری کرو تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخوشی اور تم پر نیک لوگوں کو جلد ترقی دینگے۔ پھر ظالموں نے

الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى

جو کچھ انہوں نے کہا تھا اسے بدل کر اس کی جگہ دوسری بات لکھ دی پس یہی نافرمانی کیا کرتے تھے اس کے بدلے ہم نے

الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔

وَإِذْ اسْتَسْقَمَ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

اور (تو اس وقت یاد رکھو) جبکہ سڑنے لگے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے یہ کہا کہ اس چھری پر

الْحَكْرَةَ فَالْحَكْرَةُ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا وَقَدْ عَلِم

اپنا عمل سیدھی چھری اس سے بارہ جگہ ماری ہو گئے تھے (اور) ہر گروہ نے اپنے اپنے

كُلُّ آتَانٍ مِمَّنْ يَمْشِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

کچھ کو بھانا لیا تھا (پھر ہم نے یہ حکم دیا) نہ لٹنے جو کچھ تم کو دیا ہے کھاؤ۔ پھر

وَلَا تَقْتُلُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِكِينَ ۝ وَإِذْ قُلْتُمْ

لوگوں کو نہ مارو۔ پھر زمین میں مسموم نہ کرو۔ اور جبوقت ہم نے یہ کہا تھا

بہت سے تفسیریں اور حواشی اس آیت پر لکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ: "اور ہم نے حکم دیا کہ" اور "بادلوں کا سایہ" اور "پاک اور بے رزق کا شوق نہ تھا" اور "جہاں چاہو" اور "آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا" اور "اپنا عمل سیدھی چھری" اور "کچھ کو بھانا لیا تھا" اور "لوگوں کو نہ مارو"۔

بہت سے تفسیریں اور حواشی اس آیت پر لکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ: "اور ہم نے حکم دیا کہ" اور "بادلوں کا سایہ" اور "پاک اور بے رزق کا شوق نہ تھا" اور "جہاں چاہو" اور "آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا" اور "اپنا عمل سیدھی چھری" اور "کچھ کو بھانا لیا تھا" اور "لوگوں کو نہ مارو"۔

بہت سے تفسیریں اور حواشی اس آیت پر لکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ: "اور ہم نے حکم دیا کہ" اور "بادلوں کا سایہ" اور "پاک اور بے رزق کا شوق نہ تھا" اور "جہاں چاہو" اور "آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا" اور "اپنا عمل سیدھی چھری" اور "کچھ کو بھانا لیا تھا" اور "لوگوں کو نہ مارو"۔

يَوْمَ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ

کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے اسلئے اپنے خدا سے چارے لئے

يَجْرِكُنَا لِئَلْنَمَاتَنِي تِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِئَابِهَا

پر دعا کرو کہ زمین سے جو چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں تاکہ بات کھیرا گڑھی کیوں

وَقَوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اَسْتِيدِلُّونَ

سور پیاز وہ ہلارے لئے بھی پیدا کر دے (موسے علیہ السلام) فہا تھا کہ کیا تم کھینا

الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَلْهٰبِطُوْا

چیزوں کو اس سے بدلتا جا چتے ہو جو عمدہ ہے (ایسا ہی ہے تو کسی شہر

مِصْرًا اِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَخَضِرْتُمْ عَلَيْهِمْ

میں بچے جاؤ کہ جو کچھ مانگتے ہو تمکو وہاں لجاے گا اور ایسی باتیں بناؤ انوں کو

الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ وَّبَغْضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ

ذلت اور افلاس کی باری کئی تھی اور غضب خدا میں آئے تھے یہ نتیجہ اسکا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كٰفَرُوْا اِنَّ اللّٰهَ وَيَقْتُلُوْنَ التّٰمِيْنِ

تھا کہ خدا کی نشانوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انہما کو ناحق قتل کیا

بَعْدَ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

کرتے تھے (اور) یہ اسکا نتیجہ تھا کہ وہ نافرمانی اور زیادتی کیا کرتے تھے

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالتّٰمِرِيُّ

بیشک جو لوگ ایمان لائے (مسلمان) اور جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ

وَالصّٰبِئِيْنَ مَنۢ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ

اور ستارہ پرست (انہیں سے) جو بھی خدا اور روز قیامت پر ایمان لائیں اور نیک

صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاَخْوَفُ

عمل (اینگے پس انکا اجر انکے خدا کے پاس ہے اور آگوند کوئی خون ہوگا

اور انکو کوئی خون ہوگا

یوم لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ
یَجْرِكُنَا لِئَلْنَمَاتَنِي تِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِئَابِهَا
وَقَوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اَسْتِيدِلُّونَ
الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَلْهٰبِطُوْا
مِصْرًا اِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَخَضِرْتُمْ عَلَيْهِمْ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ وَّبَغْضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كٰفَرُوْا اِنَّ اللّٰهَ وَيَقْتُلُوْنَ التّٰمِيْنِ
بَعْدَ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالتّٰمِرِيُّ
وَالصّٰبِئِيْنَ مَنۢ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ
صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاَخْوَفُ
عَل

یوم لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ
یَجْرِكُنَا لِئَلْنَمَاتَنِي تِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِئَابِهَا
وَقَوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اَسْتِيدِلُّونَ
الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَلْهٰبِطُوْا
مِصْرًا اِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَخَضِرْتُمْ عَلَيْهِمْ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ وَّبَغْضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ
یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كٰفَرُوْا اِنَّ اللّٰهَ وَيَقْتُلُوْنَ التّٰمِيْنِ
بَعْدَ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالتّٰمِرِيُّ
وَالصّٰبِئِيْنَ مَنۢ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ
صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاَخْوَفُ
عَل

یوم لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ
یَجْرِكُنَا لِئَلْنَمَاتَنِي تِ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِئَابِهَا
وَقَوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا قَالَ اَسْتِيدِلُّونَ
الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اَلْهٰبِطُوْا
مِصْرًا اِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَخَضِرْتُمْ عَلَيْهِمْ
الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ وَّبَغْضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ
یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كٰفَرُوْا اِنَّ اللّٰهَ وَيَقْتُلُوْنَ التّٰمِيْنِ
بَعْدَ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالتّٰمِرِيُّ
وَالصّٰبِئِيْنَ مَنۢ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ
صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَاَخْوَفُ
عَل

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ۝ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

اور نہ وہ غمگین ہوتے اور اسوقت کو یاد کروا جب تم سے مجھے عہد لیا تھا

وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ

اور کوہ طور تمہارے سر سے اٹھایا کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ جو تمہارے ہاتھ سے تم کو دیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ مُبَاهَاةَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا

تاکم ہو جاؤ اور اُسکے مطالب بیان کرتے رہو تاکہ تم شتھی ہو جاؤ اُسکے بعد تم پھر روگردان

بَعْدَ ذَلِكَ ۝ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

ہوے پس اگر اللہ کا فضل اور اُسکی رحمت تمہارے شامل حال

لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الذِّبْنَ

نہونی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے اور تم میں سے جنہوں نے نہت کباب میں زیادتی کی

اعْتَدُوا مِثْقَالَ حَبِّ خُمْرٍ لِأَنْ يُبَاعَ بِكُمْ نَسِئَةٌ أَوْ

تم اُنکو خوب جانتے ہو پس مجھے اُننے کہا کہ

قِرْدَةً خَاسِئِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ الْبَاطِنِ يَدَيْهَا

ذیل بندر بجاؤ پھر ہم نے اس واقعہ کو اُنکے ہم عصرون

وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذْ قَالَ

اور بعد میں آنیوالوں کے لئے عقوبت قرار دیا اور یہ چیز گارو کے لمبھوت اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ

مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا

موسے نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم

بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوءًا قَالِ أَعِزُّ بِاللَّهِ

دیتا ہے اُنھوں نے کہا کیا آپ ہم سے بظن کرتے ہیں (موسے نے) فرمایا پتاہ بجا

أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

کہہ میں جا بھروسے ہو جاؤ اُنھوں نے کہا کہ اپنے خدائے دہلیجے کہ وہ

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin of the page.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire bottom margin of the page.

يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ہم سے کوکر بیان کرے کہ وہ گائے کیسی (جو مٹنے سے) فرمایا کہ خدا نے تمہارے زمانے کو وہ گائے نہ تو

فَارِضَةٌ وَلَا يُكْرَمُ لِأَعْوَانِ بَيْنَ ذَلِكَ مَا قَعَلُوا

جو مہیا ہو اور نہ بھیجا بلکہ دونوں کے بین میں ہو اتو تمکو جو حکم دیا گیا ہے

مَا تَقْرَءُونَ ۚ قَالُوا أَدْعُ لِنَارِكَ يَبَيِّنْ لَنَا

یجا لاد انہوں نے کہا کہ خدا سے کہنے کہ اس کا رنگ صاف صاف

مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ

تلاوسے (موتے مٹے) فرمایا کہ خرافا ہے کہ وہ گائے ایسے گریے ندرنگ کی ہو

فَاعِجٌ لِّؤُنْهَا كُفْرُ النَّظِيرِينَ ۚ قَالُوا ادْعُ لَنَا

کہ دیکھنے والو تمکو بھی معلوم ہو انہوں نے کہا خدا سے دعا

رَبِّكَ يَبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْهَا

کہنے کہ اس کی ماہیت کوکر بیان کر دے میں اس گائے کے بلوسے میں دھوکا ہے

وَلَا تَأْكُلُ أَرْسًا شَاءَ اللَّهُ لَهْتَدُونَ ۚ قَالَ إِنَّ

پھر ہم انشاء اللہ راہ راست پر آجائے (موتے مٹے) کہا کہ خداوند عالم

يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ۚ لِذُلُولٍ تُشِيرُ الْأَرْضَ وَلَا

فرماتا ہے کہ یہ گائے ایسی ہو جو نہ کلام کنوالی ہو کہ زمین جوتی ہو اور نہ

تَسْقِي الْحَرَّتِ مَسْلَمَةً لِأَشْيَاءِ فِيهَا ۚ قَالُوا الشَّن

زراعت سینجی ہو صحیح و سالم ہو امین کوئی داغ دھبہ نہ ہو وہ بولے کہ کلب آپ نے

جِئْتِ بِحَقِّ قَدْ جُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

ٹھیک ٹھیک بیان کیا پھر گائے ذبح کی گوائے ایسا کرنے کی امید نہ تھی

وَأَذَقْتُمْ نَفْسًا كَادِرًا تَرَفِيهَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

اور جوتی تھے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اسکے بارے میں اذیت کیا اور پھر چھپاتے تھے اللہ

بے شمار تفسیریں اور حواشی پر مشتمل مارجنل کالم جس میں قرآنی الفاظ کی تفصیلی تفسیر اور اس آیت کے متعلق روایتیں اور فقہی حواشی درج ہیں۔

بے شمار تفسیریں اور حواشی پر مشتمل مارجنل کالم جس میں قرآنی الفاظ کی تفصیلی تفسیر اور اس آیت کے متعلق روایتیں اور فقہی حواشی درج ہیں۔

بے شمار تفسیریں اور حواشی پر مشتمل مارجنل کالم جس میں قرآنی الفاظ کی تفصیلی تفسیر اور اس آیت کے متعلق روایتیں اور فقہی حواشی درج ہیں۔

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the number 18 in a circle.

اَتَّخَذُوا نُؤْمَهُمْ مِّمَّا فَخَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِمَا جُوعُوا بِهِ عِنْدَ

کیاتم اٹنے میں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے حضور میں آئیں

رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ

باتوں سے تمہارے رب کا علم کیا تم کو اتنی جہل نہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ بھی

يَعْلَمُ مَا يَسْتُرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ وَمَنْهُمْ أُمِّيُونَ

جانتا جو کہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جگا وہ اعلان کرتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں کہ

لَا يَعْلَمُونَ الْكُتُبَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

کتاب کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ اسکی نظموں کو سوچ لیں اور طلب کی طرف سے کلام ہی ممان لکھتے ہیں

قَوْلِ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكُتُبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

پس وہ ان لوگوں کے لئے جو کتاب کو اپنے ہی ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر (نہیں)

يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشَارَ بِهِ مَنَّا

کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اسکو تمہاری ہی قیمت پر

قَلِيلًا قَوْلِ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَيُلَاحِظُونَ

ہج میں ہیں پس وہ اپنے لئے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں لکھا اور وہی ہے اٹنے لے

مِمَّا يَكْسِبُونَ ۝ وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا

ہو جائے جو کچھ اس کہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سوائے گنتی کے دنوں کے جہنم کی آگ

مَعْدُودَةٍ قُلْ ائْتِمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ

چھوٹے گی بھی نہیں تم اٹنے سے کہو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی عہد لیا ہے کہ

يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

خدا اپنے عہد کے ہر خلاف نہ کہے گا یا پھر اسکا کہہ کر کہ تم جو خدا کے خلاف باتیں بناتے ہو

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ

ہاں جو کوئی بدی بھی کرے گا اور اسکا گناہ اسکو گھیر لے گا وہی تو

نصو

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, including a large triangle symbol.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page.

أَصْحَابُ الْفِئَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا

جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے

وَعَلَى الصَّلَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

اور انہوں نے ایک کام ہے جن وہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ (رہیں)

خَالِدُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

انہوں نے اور (سورق کو یاد کرو) جب کہ بنے اولاد اسرائیل سے عہد لیا تھا

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأُوذِيَ

کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے (مدرقا) اور

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

کے والدین اور یتیموں اور مسکینوں سے (معمولاً) اچھے کرتے رہنا اور لوگوں سے بھلائی بات کرنا

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ لَأَقِيلًا

اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوہ دیتے رہنا پھر تم اس ملک سے روگردان

مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ

ہو کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو اور جب کہ تم سے عہد لیا تھا کہ

لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّنْ

اپنی میں خونریزی نہ کرنا اور نہ اپنی کو اپنے ملک سے

دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ

مکانت پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو پھر وہی تم ہو کہ

هُوَ لَكُمْ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ مِنْهَا مَنكُمُ

اب لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنے ملک سے

مَنْ دِيَارِهِمْ تَطْرَهُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِلْمِ وَالْعُدْوَانِ

کھاتے ہو اور ان کے بڑھاپے اور زیادتی کرنے میں ایک دوسرے کی پشتی لیتے ہو

بہت سی حواشی اور تفسیریں اس صفحہ پر لکھی گئی ہیں، جو اس کے ارد گرد اور اندر لکھی گئی ہیں۔

Handwritten marginal notes in Arabic script at the top of the page.

وَأَن يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَقْدُوهُمْ وَهُوَ حَرَمٌ

اور جب وہ تمہارے پاس قید کر کے لائے جائیں تو انہیں قید میں لیتے ہو حالانکہ انکا حال دنیا ہی

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونٌ بِبَعْضِ الْكُتُبِ

تہم پر حرام کر دیا گیا تھا کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو

وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ

اور بعض کے منکر ہو اور جو تم میں سے ایسا کرے اسکا بدلہ لاسو اسے اسکا نہیں ہو

الْآخِرِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ

کہ زندگانی دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت

إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

مذاب میں ڈالے جائیں ہر حال جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے غور نہیں ہے

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض زندگانی دنیا (جو بھٹی) خرید لی

فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ

پس انکے مذاب میں کوئی تخفیف کیجائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد دیجائے گی

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

اور با تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور انکے بعد اور رسول (کیے بعد دیگرے) بھیجے

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں عجت فرمائیں اور روح القدس کے ذریعہ اسکی تائید کی

أَفَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَّا لَكُمْ هَوًى أَنفُسِكُمْ اسْتَكَرْتُمْ

کیا (ایسا نہیں ہو اگر) جو وقت بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہارے نفوس کی خواہش کے خلاف حکم لیکر آیا

فَفَرِقَا لَّذِبْنَ بَرِّقَاتِكُمْ وَفَرِقَاتِكُمْ لِقَاتِكُمْ أَعْمَى وَقَالَ قُلُوبُنَا

تم برابر کرتے رہے پھر کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے دل

Handwritten marginal notes in Arabic script at the bottom of the page.

غُلْفٌ دَبِيلٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ

علوم کے کتے ہیں (ایمانیوں) بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب نیرنت کی اور وہ بہت ہی کم ایمان لائینگے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا

اور جو حق امتی کی طرف سے آئے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو خود انکی کتابوں کی تصدیق

مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ

کرنے والی تھی حالانکہ پہلے سے وہ خود کافروں کے برطان فتح حاصل کرنا چاہتے

كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ

بھی تھی مگر جب وہ آیا جسکو وہ پہچانتے تھے تو اسکا انکار کر گئے پس ان انکار کرنے والوں

اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ بِسْمِ اللَّهِ تَرَوَاهُ أَنْفُسُهُمْ

پر خدا کی لعنت ہو کیا بڑی چیز ہے وہ جسکے پرے انھوں نے اپنی جانوں کو

أَنْ يَكْفُرُوا ۗ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ

بیخ ڈالا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سے انکار کر دین یہ بغاوت اسنے کی کہ اللہ اپنے

فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاءٌ وَيُغْضِبُ عَلَى

بندوں میں سے جسپر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے پس وہ غضب بالائے غضب کے

غَضِبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

سحق ہوئے اور سگردوں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب مقرر کیا گیا اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے

أٰمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا

کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اسپر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے ہوتا اسپر ایمان لائینگے اور

يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ كُفْرِهِمْ وَهُوَ أَرْحَمُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ

جو اسکے علاوہ ہے اسپر ایمان نہیں لاتے حالانکہ وہ حق ہے اور جو کچھ آئے پاس ہوا اسکی تصدیق کرنے والی

قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ

پس تم یہ کہو کہ اگر تم مومن ہوتے تو اس سے پہلے انبیائے خدا کو قتل کیوں کرتے

کلمہ

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and additional verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqra) on the left and 'الانعام' (Al-An'am) on the right.

البقرة

الانعام

كَانَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّبِعُوا مَا نَسُوا الشَّيْطَانُ عَلَى

گویا وہ اسکو جانتے ہی تھے اور اسکی پیروی کرنے لگے جو کچھ شیاطین عند سلطنت سلیمان

مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ

میں پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان کی طرف سے کفر کی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ شیاطین نے

كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ

کفر کیا جو آدمیوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اسکی تعلیم کیا کرتے تھے جو ایل میں

الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يَعْلَمُنِ

دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا حالانکہ یہ دونوں فرشتے

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا حُنُّ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرْ ۗ

کسی شخص کو کوئی بات نہ بتاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ادیکھا ہم آزمائش میں اور تو کفر نہ کر

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

اپر بھی لوگ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھ لیتے تھے جن سے شوہر اور زوجہ میں جُدائی ڈال دین

وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

حالانکہ بغیر حکم خدا وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا

اور سیکھتے بھی تھے تو وہ جو انکو نقصان پہنچانے اور نفع کچھ نہ کرے حالانکہ خوب جانتے تھے کہ

لَنْ يَشْتَرَهُ مَالُهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَئِنْ

جو ان چیزوں کا خریدار ہوگا آخرت میں اسکا کوئی حصہ نہیں اور بہت ہی بُرا

مَاشَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ

اسکا معاوضہ ہر جنہوں نے اپنی جانیں ان باتوں کے عوض میں بیچ دین کاش اسے وہ جانتے ہوتے اور اگر وہ لوگ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَثُمَّ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرًا لَّو كَانُوا

ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کی طرف سے جو ثواب انکو ملتا بہتر ہوتا کاش وہ اسے

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.

يَعْلَمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ

جاننے ہوتے اسے ایمان لائیوالو (رسول سے) راعنا نہ کہو اور

قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۝ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

اُنظُرنا کہو اور (توہم) سُنو اور انکار کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے

مَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا الْمَشْرِكِينَ

اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ہیں اُنکو اور شرک کو کو یہ پسند نہیں ہے

أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ

کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر (برکت) نازل کیجائے حالانکہ اللہ جسکو چاہتا ہے

بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَّا نَسِيْنَا

اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے ہم کسی آیت کو

مِنْ آيَةٍ أَوْ نَسِيْنَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۝ أَلَمْ تَعْلَمَ

منسوخ نہیں کرتے نہ بھلا تے ہیں جبکہ کہ اس سے بہتر یا ویسی ہی نازل نہ کر دین کیا تم لوگ نہیں

أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ

کہ خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں کا اور

مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ

زمین کا اختیار صرف خدا ہی کو ہے اور سوائے خدا کے نہ تمہارا کوئی

وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ

یار ہے اور نہ مددگار آیا تمہارا یہی ارادہ ہے کہ تم اپنے رسول سے توہی ال

كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۝ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ

جیسے پہلے موسیٰ سے سوال کئے گئے تھے اور جو شخص ایمان سے کفر کو

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَكَثِيرٌ

بدل لے گا وہ بلا شک گمراہ و بدراہ ہو جائیگا اہل کتاب میں سے

بہت سی تفسیریں اور حواشی لکھی ہیں۔ اس میں قرآن مجید کے الفاظ اور آیتوں کی تفسیر، روایات، اور فقہی حواشی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر متن بھی لکھے ہیں جن کی تفسیریں بھی موجود ہیں۔

بہت سی تفسیریں اور حواشی لکھی ہیں۔ اس میں قرآن مجید کے الفاظ اور آیتوں کی تفسیر، روایات، اور فقہی حواشی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر متن بھی لکھے ہیں جن کی تفسیریں بھی موجود ہیں۔

بہت سی تفسیریں اور حواشی لکھی ہیں۔ اس میں قرآن مجید کے الفاظ اور آیتوں کی تفسیر، روایات، اور فقہی حواشی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر متن بھی لکھے ہیں جن کی تفسیریں بھی موجود ہیں۔

کے سبب خدا کی نافرمانی کرنے والے قرار پائے ہو، ارا کے جواب کے سنی ہو، اور تہذیب کی اصلاح اور

بے شمار تفسیریں اور حواشی، کتب، رسائل، اخبار، مجلے اور دیگر تصانیف میں مذکور ہیں، جو اس آیت کی تفسیر کے لیے لکھے گئے ہیں، ان میں سے کئی ایک نے اس آیت کی تفسیر میں نیا اور مفید مباحث اور حواشی پیش کیے ہیں، جن سے اس آیت کی تفسیر میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کے بغیر اس آیت کی تفسیر ناقص رہتی ہے، لہذا ان تفسیروں کو اس آیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس آیت کی تفسیر میں کمی نہ رہے۔

البقرة

۲۶

الم

مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كِفٰرًا

تو بہت سون کی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد مرتد بنا کر کافر کر لیں

حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحَقُّ

(مرتد) حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے بعد اس بات کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهَ بِاَمْرٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ

پس تم صاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنے امر کو خود ظاہر کر دے بیشک اللہ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰمُوا

ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور جو

تَقْلِمُوْا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ

نیکی تم اپنی ذات کے لئے پہلے سے بھیجے گا اسے اپنے خدا کے پاس پاؤ گے بیشک خدا

بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَقَالُوْا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُنۢ

تمہارے کل اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سوائے اُسکے جو یہودی ہو یا

كٰنَ هُوْدًا اَوْ نَصْرٰى ۗ تِلْكَ اَمْثَلُهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ

نفرانی ہرگز کوئی داخل جنت نہ ہوگا یہ اُسکی آرزو میں ہیں تم یہاں کہ دو (کہ اگر تم سچے ہو

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ بَلٰى ؕ مِّنْ اَسْمٰكُمْ وَجْهٌ لِلّٰهِ وَهُوَ

تم اپنی دلیل پیش کرو ہاں جو شخص خدا کے لئے اپنی ذات کو آمادہ اطاعت

فَحَسْبٌ ۗ فَاِنَّ اَجْرَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

کرے اور وہ نیکو کار (بھی) ہو اسکا اجر خدا کے ذمہ ہی اور (جو ایسے ہیں) اُنکو نہ (آئندہ کا خوف ہوگا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرٰى

اور نہ وہ (گزشتہ کا کرم) کہیں گے اور یہودیوں نے یہ کہا کہ نصاریسے (دین کی) کسی بات

عَلٰى شَيْءٍ ۗ وَقَالَتِ النَّصْرٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ

پر نہیں اور نصاریسے نے یہ کہہ دیا کہ یہودی (دین کی) کسی بات پر نہیں

ثلاثة اربع

۱۳

بے شمار تفسیریں اور حواشی، کتب، رسائل، اخبار، مجلے اور دیگر تصانیف میں مذکور ہیں، جو اس آیت کی تفسیر کے لیے لکھے گئے ہیں، ان میں سے کئی ایک نے اس آیت کی تفسیر میں نیا اور مفید مباحث اور حواشی پیش کیے ہیں، جن سے اس آیت کی تفسیر میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کے بغیر اس آیت کی تفسیر ناقص رہتی ہے، لہذا ان تفسیروں کو اس آیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس آیت کی تفسیر میں کمی نہ رہے۔

تفسیر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور جو نیکی تم اپنی ذات کے لئے پہلے سے بھیجے گا اسے اپنے خدا کے پاس پاؤ گے بیشک خدا

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

حالانکہ وہ (دورن) کتاب پڑھتے ہیں انہی کی باتیں ان لوگوں نے بھی بنائی تھیں جو

مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ يَكْفُرُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا

(حق کو) کچھ نہیں جانتے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن جن باتوں میں یہ اخلاف کر رہے

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ

ہیں ان (سب) کا فیصلہ کر دے گا اور اُس سے زیادہ ظالم کون ہو گا اللہ کی

مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

مسجدوں میں اُنکے نام کے ذکر کو روک دے اور اُنکی بربادی میں کوشش کرے

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا لِأَخَافِينَهَا

یہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے مناسب نہیں ہے کہ مسجدوں میں آئیں مگر ڈرتے ڈرتے

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

دنیا میں اُنکے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں اُنکے واسطے بڑا عذاب

عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّمَا تَوَلَّوْا فِئْتَمَّ

ہے اور مشرق و مغرب اللہ کے ہیں پھر تم جہتوں میں سے کون سے کو لے کر ہیں خدا کا

وَجْهٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

رُحْمًا أَوْ حَرَمًا يَبْتَغِي اللَّهُ مَالًا يَدْعُوهُ سِيمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَكَذَّبُوا حَتَّىٰ

وَلَدًا اسْتَحْنَاهُ دَبْلٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهِ

کوئی بیٹا بنایا اُسکی ذات (ایسی باتوں سے) سزا دے بلکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے

قَلْبَتُونَ ۝ يَدْعِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

اسی کا ہے (اور) سب سے بڑا ہے زمین اور آسمانوں کا اور زمین کو سید کرنا خواہے اور جب کسی امر کو

فَأَيُّمَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِحُكْمِهِ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

جو کچھ کہتا ہے تو صرف کن فرما دیتا ہے اور (وہ) جو حکم دے گا اور جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'بِسْمِ اللَّهِ' (In the name of Allah) written vertically on the left side.

اس آیت میں جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اس کی مثال دیکھو۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم عطا کیا ہے۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم عطا کیا ہے۔

لَوْ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ أَوْ تَأْتِي آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ

ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہر کوئی آیت کیوں نہیں آتی اسی طرح انہی نے پہلے والوں نے بھی

مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا

ایسی ہی بات کہی تھی ان سب کے دل باہم یکساں ہیں بیشک تمہیں لانیوالے

الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۚ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا

اور پیغمبر کے لئے ہم دلیل صاف بیان کر چکے ہاتھیں جھٹکوں کے ساتھ خوشخبری دینے والا

وَنذِيرًا ۚ وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْحَيْوَةِ ۚ وَلَنْ تَرْضَىٰ

اور ڈرانے والا (بنا کر) بھیجا ہے اور تم سے دوزخوں کی بابت باز پرس نہوگی یہودی اور نصرائی تو

عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ مَنْ

تم سے ہرگز راضی نہوگے جبکہ تم انکی نکت پر نہ چلو تم (یہ) کہو

هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

کہ اللہ کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے اور اگر بعد اس کے کہ تمہیں علم حاصل ہو چکا

بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وِليٍّ

تجھے انکی خواہشوں کی پابندی کی تو خدا کی طرف سے نہ کوئی تمھارا یار ہوگا

وَلَا نَصِيرٍ ۚ الَّذِينَ اتَّيْتَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلْكَوتِهِ

اور نہ مددگار اور جن لوگوں کو تمہیں کتاب دی ہے وہ اسکو ایسا (ہی) پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

وہی اسپر ایمان (بھی) رکھتے ہیں اور جو اس سے منکر ہو گئے وہی

الْخٰسِرُونَ ۚ يٰٓبَنِي إِسْرٰءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي

نقصان اٹھانے والے ہیں اے اولاد اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو

أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ وَاتَّقُوا

میں نے تم کو عطا کیا اور اس بات کو کہ میں نے تمکو تمام عالم پر فضیلت دی اور اس

کے لیے اس صورت میں کہ اس آیت میں جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے اس کی مثال دیکھو۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم عطا کیا ہے۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم عطا کیا ہے۔



خدا نے تم کو عطا کیا اور اس بات کو کہ میں نے تمکو تمام عالم پر فضیلت دی اور اس

يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

دن سے ڈرو جس دن کسی نفس کا بدلہ کسی طرح نہ کرے نفس جان سے دیگا اور نہ اس کا فیہ قبول

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

کیا جائیگا اور نہ کوئی سفارش اسکو نفع پہنچائے گی اور نہ آگے (کسی اور طرح سے) مدد کی جائے گی

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي

اور اسوقت کہ یاد کرو جبکہ ابراہیمؑ کا آٹھ کلمے کی امتحان لیا اور ابراہیمؑ نے انکو پورا کر دیا (خدا نے)

جَاءَكَ لِلنَّاسِ مِمَّا مَاءٌ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ

فرمایا کہ میں تمکو کل آدمیوں کا امام مقرر کروں لا اھلن (ابراہیمؑ نے عرض کی اور میری اولاد میں سے ہے) خدا نے فرمایا

لَا يَنْبَغُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ

جو مقام ہو گئے (دو چیمبر مسجد) فائدہ نہ آٹھائیں گے اور (اسوقت کو یاد کرو) جبکہ تمہو اس گھر کو کل تعمیر کیا

مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ

ثواب کی جگہ اور امن کا مقام مقرر کیا اور (یہ حکم دیکھا) مقام ابراہیمؑ کو یعنی

مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ سَمِعَ أَن يَنْهَىٰ ابْنَتِي

قرار دو اور ابراہیمؑ اور اسبیل کو یعنی یہ عہد دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو

لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَإِذْ قَالَ

لوگوں کو تیروں دن اور آٹھ گنوں اور رکوع دو رکوع والوں کے لئے پاک صاف رکھو اور (اسوقت کو یاد کرو)

إِبْرَاهِيمَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ

جبکہ ابراہیمؑ نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار اسکو شہر امن قرار دو سے امداد کے رہنے والوں کو جو ان میں سے

الشَّرَائِعِ مِنَ آمِنٍ مِّنْ مَّبْنِيٍّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ

امد اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں چلوں سے رزق پہنچا (خدا نے) فرمایا اور جو ان میں سے

كُفِرَ فَمَتِعَهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَسَّ

کافر ہو گیا میں اسکو تھوڑے عرصہ کیلئے مع پہنچاؤں گا پھر اسکو عذاب جہنم کے لئے مضطر کروں گا اور وہ پری

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire left margin of the page.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire right margin of the page.

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'الصلوة' (The Prayer) and other religious commentary.

الصلوة

۳۰

الصلوة

الْمَصِيرُ وَإِذْ يُرْفَعُونَ أَبْرَاهِمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ
اسْمَعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
وَإِنَّا نَسْأَلُكَ لِكُلِّ مَسْئَلَةٍ لَكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمْنِ سَفِهَ
نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ لَقَالَ اسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
يَدْبِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الَّذِينَ فَلَاحُوا فِي الْأَوَّلِينَ

۱۵

Extensive handwritten commentary on the right side of the page, providing detailed explanations of the verses and their meanings.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary and including the word 'الصلوة'.

مُسْلِمُونَ ۚ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ خَضَعَ يَعْقُوبُ لِمُوسٰٓ

فرمانبردار ہو آہا تم اسوقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی

اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِي قَالُوۡا نَعْبُدُ

کہ اسوقت انہوں نے اپنے بیٹوں دریافت کیا تھا کہ تم میرے بعد کسکی عبادت کرو گے انہوں نے عرض کیا کہ

اِلٰهٰکَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا

ہم آپکے سوا اور آپکے دادا چچا باپ ابراہیم و اسمعیل و اسحق کے سوا اور خدا کے سوا اور کسی عبادت

وَاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ۝ تِلْکَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

کیا کریں گے اور ہم اسی کے مطیع رہیں گے وہ ایک لوگ تھے جو گزر گئے

لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا کَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تَسْئَلُوۡنَ عَمَّا

انکا کیا انکے لئے رہا اور تمہارا کیا تمہارے لئے اور جو کچھ کیا کرتے تھے اسکی بات نہ

کَانُوۡا یَعْمَلُوۡنَ ۝ وَقَالُوۡا کُوۡنُوۡا ہُوۡدًا وَاَوْنٰصِرٰی

سوال نہ کیا جائے گا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت

تَهْتَدُوۡۤا ۚ قُلْ بَلۡ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیۡفًا ۚ وَمَا کَانَ مِنَ

یاؤ گے (اے رسول) تم یہ کہہ دو کہ خالص دل سے ملت ابراہیم کا اتباع کرو اور وہ مشرکین میں سے

اَلْمَشْرِکِیۡنَ ۝ قُولُوۡا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنۡزِلَ اِلَیۡنَا وَمَا

نہ تھے تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اسپر اور جو کچھ

اُنۡزِلَ اِلَیۡ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ وَاِسْحٰقَ وَاِسْحٰقَ وَاِسْحٰقَ

ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب

وَالۡاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوۡتِیۡ مُوسٰٓی وَعِیۡسٰی وَمَاۤ اُوۡتِیۡ النَّبِیُّوۡنَ

اور اسباط پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہے اسپر اور جو انہیں کو انکے رب کی طرف

مِنۢ رَبِّہُمۡ ۚ لَا تَفْرِقۡ بَیۡنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ زِوَجۡنَ لَہٗ

ملا ہے اسپر اور ہم (مخل ہونے کے) ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the Basmala and other introductory text.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'البقرة' (Al-Baqara) on the left and 'سورة' (Surah) on the right. The central part contains the number '۳۳' (33) inside a circle.

البقرة

۳۳

سورة

مُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا

مسلم ہیں اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو جیسا کہ تم نے ہدایت پائی

وَأَنْ تُولُوا آفَاتِنَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَمُ اللَّهُ

اور اگر وہ گردان ہو گئے تو وہی نافرمانی میں ہیں پس اللہ تم کو آگے شرسے بچائے گا

وَهُوَ الشَّهِيدُ الْعَلِيمُ ۚ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ

اور وہ شہنشاہ (اللہ اور) جاننے والا ہے یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے جو کما رنگ

اللَّهُ صِبْغَةً زَوْجِنَ لَهُ عِبْدُونَ ۚ قُلْ أَمْحَا جُنُودَنَا فِي

جو کما رنگ؟ حالانکہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں (اسے رسول) کہہ دو کیا اللہ کے بارے میں

اللَّهُ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلِنَا أَعْمَالُ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ

تمہیں محبت کرنے والے ہیں اور تمہاری اور ہمارے اعمال تمہارے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے

وَسَخِّنَ لَهُ الْخَالِصُونَ ۚ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

اور ہم اس سے خلوص رکھنے والے ہیں یا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا أَهْوَادًا وَق

اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط یہودی

نَصْرَى بِقُلُوبٍ ۚ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْرًا اللَّهُ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ

نصرانی تھے (اسے رسول) کہہ دو کہ تم زیادہ واقفکار ہو یا اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا

مَنْ كَثُرَتْ شَهَادَةُ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

جو اللہ کی شہادت کو جو آگے پاس ہے چھپائے اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو

عَمَّا تَعْمَلُونَ ۚ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا

جزیر نہیں ہے وہ ایک لوگ تھے جو گزر گئے تمہا کیا ان کے لئے

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

اور تمہارا کیا تمہارے لئے اور تم سے اس کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے سوال میں کیا ہے

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the verses. The notes are written in a cursive script and cover the entire right margin.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary and providing further details about the verses.